

14-صلوة و زکوٰۃ Prayers and Poor Due

1. اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔ ﴿20: p / ۱۴﴾

“Verily, I am Allah: There is no God but I: So serve Me and establish regular prayer for My remembrance. ﴿20: Ta Ha\ 14﴾

2. وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ۝

اور نماز ادا کرو کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ ﴿2: 2 / ۴۳﴾

And be steadfast in prayer; practice regular charity; and bow down your heads with those who bow down. ﴿2: Al-Baqarah\ 43﴾

3. قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ يَوْمَ لَآ بَيْعٍ فِيْهِ وَلَا خِلَآءٍ ۝

(اے پیغمبر ﷺ) میرے مومن بندوں سے کہہ دیں کہ نماز ادا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو گا اور نہ دوستی (کام آئے گی) ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے درپردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ ﴿14: j / ۳۱﴾

Speak to my servants who have believed, that they may establish regular prayers, and spend out of the sustenance we have given them, secretly and openly, before the coming of a day in which there will be neither mutual bargaining nor befriending. ﴿14: Ibrahim\ 31﴾

لوازماتِ صلوٰۃ Requirements of prayer

1. وَرَبِّكَ فَكْبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو۔ ﴿﴾ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو ﴿﴾ اور ناپاکی سے دور رہو۔ ﴿﴾

(74: É / 5-3)

And your Lord do magnify, ﴿﴾ And your garments do purify, ﴿﴾

And uncleanness do shun, ﴿74: Al-Muddaththir\ 3-5﴾

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿74﴾

مومنو! جب تم نماز کا قصد کیا کرو تم منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھو لیا کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستہ ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو ﴿5: a / ۶﴾

O you who believe! When you get up for prayer, wash your faces, and your hands to the elbows, rub your heads with water; and wash your feet to the ankles. If you are in a state of impurity, bathe your whole body. But if you are ill, or on a journey, or one of you comes from call of nature, or you have been in contact with women, and you find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands, Allah does not wish to place you in a difficulty, but to make you clean, and to complete his favour to you, that you may be grateful. ﴿5: Al-Ma'idah\ 6﴾

3. يَبْنَئِي أَدَمَ خَدًا وَارْيَدْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

اے نبی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مڑین کیا کرو۔ ﴿7: c / ۳۱﴾

O Children of Adam! Dress well at every time and place of prayer. (7: Al-A'raf\ 31)

4. وَاقْبُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا (قبلے کی طرف) رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ ﴿7: c / ۲۹﴾

And that you set your whole selves at every time and place of prayer, and call upon Him, being sincere to Him in obedience. (7: Al-A'raf\ 29)

5. وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنَّا

تَعْبَلُونَ ﴿١٤٩﴾

اور تم جہاں سے نکلو، (نماز میں) اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ ﴿١٤٩﴾ (2: 149)

From whatever place you come forth, turn your face in the direction of the Sacred Mosque; that is indeed the truth from your Lord. And Allah is not unmindful of what you do. (2:Al-Baqarah\ 149)

6. وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا يَهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

اور نماز میں نہ بلند آواز ہو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ ﴿١١٠﴾

(17: m: بنی اسرائیل / 110)

Neither be aloud in your prayer, nor in low tone, but seek a middle course between.” ﴿١١٠﴾ (17:Al-Isra / Bani Israel\ 110)

7. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں

فرماتا۔ ﴿٥٥﴾ (7: c / 55)

Call on your Lord with humility and in secret. Indeed Allah loves not the transgressors. ﴿٥٥﴾ (7:Al-A'raf\ 55)

Prayer Timings اوقاتِ صلوة

1. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿١٣٠﴾

اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تسبیح و تہمید کیا کرو۔ اور

رات کی ساعات میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف میں تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ﴿١٣٠﴾ (20: p / 130)

And celebrate the praises of your Lord, before the rising of the sun, and before its setting; then, celebrate Him for part of the night, and at the sides of the day, that you may well be pleased. ﴿١٣٠﴾ (20:Ta Ha, 130)

2. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٥٠﴾ وَكَلِمَةَ الْحَمْدِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٥١﴾

تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو ﴿١٥٠﴾ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف

ہے۔ اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو۔ ﴿30: z / 17-18﴾

So glory be to Allah, when you reach evening and when you rise in the morning; ﴿30﴾ and to Him be praise, in the heavens and on earth; and in the late afternoon and when the day begins to decline. ﴿30﴾

(30: Ar-Rum\ 17-18)

3. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿30﴾

(اے محمد ﷺ) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کریں۔ کیوں

صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ہے ﴿78: m / بنی اسرائیل﴾

Establish regular prayers - at the sun's decline till the darkness of the night, and the reciting of Qur'an at dawn. Surely the recitation at dawn is witnessed. ﴿78: Al-Isra / Bani Israel﴾

4. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴿114﴾

اور دن کے دونوں سروں (یعنی صبح اور شام کے اوقات میں) اور رات کی چند (پہلی) ساعات میں نماز ادا کیا کریں۔ کچھ نیک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے

ہیں۔ ﴿114: g﴾

And establish regular prayers at the two ends of the day and at the approaches of the night. Verily the good deeds take away the evil deeds. This is a remembrance for the mindful. ﴿11: Hud, 114﴾